

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف



نہیمیا سُند

بوڈ<sup>ط</sup> دیوار



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Jonathan Hay  
Alastair Paterson

کے مطابق: Mary-Anne S.

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



پارس، اکھ طاقتھور مُلکہ، یَمہ دُنیاہس پیٹھ حُکومتھ کر۔ تہ آرٹیزرزس کر پارسس

پیٹھ حُکمرانی۔ یَمی سہ دُنیا ہُکھ ساروے کھوتہ زیادہ طاقتھور حُکمران بنو۔ بادشاہ

سندھن خاص مددگارن منز اوس

اکھ نہیمیآ ناؤکھ یہودی شخص۔

تَمہ سنز کامی اُس بادشاہ سندس

غذاہس مَزِ وچھن آیا کہ اتھ منز ما

چھ کُنہ قسمکھ زہر یتھ پاٹھی

اوس سہ بادشاہس بچاوان۔




اڪه دوه آؤ نهيميا بادشاهس برونه ڪن اڪه سپهاه غمگين بته بته۔ بادشاه اوس  
پڙهان زانن تڪليف ڪياھ اوس۔ نهيمياھن وون، "اے بادشاه، ڙمے رُوز هميشه زنده، به  
چھس غمگين تڪياز سُه شهر یتھ منز ميانِي جد دفن چھ، سُه چھ ڪهندرات بنتھ۔  
تہ درواز چھ آمتھ زالئ۔" نهيميا اوس يروشلمچ ڪتھ ڪران،  
يُس وارياه وري برونه جنگي ستي تباھ  
اوس آمتھ ڪرنہ۔



آرٹیزرز بادشاہن پرڑسس، "ژے کیاہ چُھکھ پسند کران؟" نہمیابن کورس  
التجاء، "میہ دتہ یروشلم گژھنہ تاکہ بہ کرہن سہ دُبارِ تعمیر۔" بادشاہ آرٹیزرزسن  
کور اتفاق رحم دلی سان۔ ثمی دژ نیمیابن سرکاری چٹھی سفرس دوران  
بچاؤ خاطر تہ۔



بادشاہن کورس زیادِ پہن مدد۔ تمی دژ نہیمیاہس آصفس کیڑتہ  
اکھ چٹھی، یس بادشاہ سنڈین جنگلن ہند حفاظت کران اوس۔  
آصفس آؤ حکم کرنہ نہیمیاہس تیڑ لکر دنج بیڑھا ٹمس تمہ شہرک  
دیوار تعمیر کرنس لگیہ ہرے۔



يِلِّه نِهِيْميا يروشلم ووْت، ثم كرِ تمِه شهرک عهدار جمع تِه ووْنکِه، "اَسِي چه يِتِه  
پريشاني منز۔ شهر چه تباه گوومته تِه درواز چه آمتِه زالِه۔ وليو اَسِي لاگوو دُبَارِ  
تعمير شروع کَرْن۔" ثمي ووْن تِمن ز ازتيکزرس بادشاهن کور پسند تِه،  
ساروي کهوتِه زيادِ ضروري، چه خدا يس تهندي طرفِه چه۔



نہیمیا سندی اعتبارن تہ شوقن اُسہرے پڑے لوکن منز جوش پاد کورمت۔ تمو کور  
اتفاق، یہ ووَننان، "وُلہوی گرو دوبارِ تعمیر"۔ نہیمیاہن ووَن پریتھ خاندانس تمہ  
دیوارکھ کس حصہ بناؤن سہ گڑھن تمی مقرر کرن۔



پوز، ہر کانسے کور نہ دیوار دُبارِ تعمیر کرنس سٹی اتفاق۔ سنبلات ناؤک اکھ  
شخص، تہ تمہ سنڈی ز دوس ٹوبا تہ گیشام، اُس نہ یہودی کینہہ تہ تمی اُس نہ  
یژھان سہ دیوار دُبارِ تعمیر گرن  
یاه تمیکہ دروازِ لاگنہ۔



چونکہ سو کامی اُس جاری، سنبلاتس کھڑ سپٹھاہ شرارت۔ تُمی تہ تہندیو دوستو  
کور یہودین ستری مذاق۔ ٹوباہن وون، "ییلہ سہ کمزور دیوار تعمیر کرتہ موکلاون،  
اکھ لُوکٹہ شال تہ الراوی تہ۔" نہمیہن دیت نہ جوابہ۔ تُمہ بجائے، کور تُمی دُعا  
زِ خدا پوشہ تِمن۔




يِلِّه تَهْنَزِ مَسْخُرِيْلِي كَرْنِ وَا جَنِي بَرِي عَزْتِي تَمْنِ پِيْطِه كِيْنَه اِثْر كُوْر نِه، تَمُو كَر يِرُو شَلْمَس  
خَلَا ف لْزَا يِه كَرْنِجْ جَمْعْ گَزْتِه سَا زَش تِه كَرْنِ تَمْنِ يُوْتَا ه تِمَس سِيْد تُوْتَا ه پَرِي شَان - دُبَارِ  
كُوْر نَهِيْمِيَا هْنِ خَدَا يَس كُنْ مَدَدْتِه خَا طِرِ دُعَا - بِيِيَه  
تَهو و تَمِي اَكِه رَا چَهْدَرِ دُو هَس تِه رَا تَس او مِي زِ تَمِي  
مَا يِن اِچَانِك -



تمو يهوديو كرى تيڙه سخت  
محنت، تم اُس تهڪان - ڪينھ  
ڪھوڙ ز دشمن ما پيھر تہ تمن  
مارے پيلہ تم ڪامي اُس ڪران - تمہ  
پتہ تہ، نہ پيمياہن رُڪاؤ نہ اٿس منز  
نيٽر ڪامي ڪينھ - ٿمي تهاوو ڪامي  
ڪرن والين اندي اندي راجھدر تہ  
تمن پون ياد ز خدا اوس تهندي  
طرفہ تہ خدا چھ ڪانسي تہ دشمنہ  
سندي ڪھوتہ زياد طاقتھور!



تعمیر کران۔ سہ اوس  
پن پونسن غذا ملی ہینہ  
خاطر استعمال کران۔



نہیمیاہن کر اکھ رڑ مثال اُسہ نچہ  
کوشش۔ بادشاہ آرٹیزرن اوس سہ  
یروشلمکھ گورنر یمی یختیار ہیتہ  
بنوومتہ ز سہ منگیہے لوکن غذا تہ  
پونسہ، مگر تم کور نہ تہ کینہہ۔ تمی  
کر لوکن ستی ستی سخ محنت ییلہ  
تم سہ دیوار اُس دُبار



آخرکار، تمو لؤکو واتہ نووو دیوار اند، تہ وونی آس تته صرف خاص درواز  
لاگنی۔ ییلہ سنبلاتن، ٹوباہن تہ گیشامن بوز ز وونی چہنہ ئمی دیوارچ اکھ  
بری تہ ییلی، تمو بنوو نہیمیاس نوقصان واتہ ناؤنؤکہ منصوبہ۔



تمو سوڑ نہیمیاہس شیچھی تمن او نو ناوچہ جائے پیٹھ۔ مگر نہیمیا اوس زانان تم  
اس تمس چالاکی ستی شہر منڑ نیبر کڈنچ کوشش کران لہذا واتناوہنس نوقصان۔  
تمی لیکھ تمن واپس ووننکھ زسہ تراوی نہ کامی تمن سمکھنہ خاطر کینہہ۔





آخرڪار ووت ديوار آند، تہ نهيمياہن  
تھاوو آتہ حفاظتس راجهدر۔



تَمَّ بِنَنوُ اَكه  
قانون زِ تِم دروازِ  
گژهن نِه توتام اصل



پاٹھی ییلہ یوتام نِه افتاب بیور  
کھسہ۔ راژ دوران گژهن تِم  
بند کرن تہ کلف دنی۔



نہیمیا آسہے پڑی پاٹھی سپٹھاہ خوش  
گومتھ زِ تم آس سہ کامی آند واتناوِ مژ  
یوسہ تمس خداین دِژمژ آس، ہرگاہ  
تمس سارے رکاوٹہ  
تہ آسہ۔ سہ ٹھہریو  
یروشلمس منز تہ  
لوکن کورن ہمیشہ  
خدایس فرما برداری  
کرنس منز مدد۔

وونی اوس سہ شہر محفوظ،  
واریاہ جلائے وطن لوکھ یمی  
دُنیاہیکین مختلف حصسن  
منز آس آبی یروشلم واپس۔



نہیمیا سُنڈ بوڈ دیوار

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

نہیمیا

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

